



Assurance of Support

ویزے کی درخواست دینے والے کچھ لوگوں کو Assurance of Support حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسکے بعد ہی انہیں آسٹریلیا میں رہنے کے لئے ویزا مل سکتا ہے۔

Assurance of Support کیا ہے

Assurance of Support (AoS) ایک آسٹریلیا کے رہائشی فرد یا ادارے (the assurer) اور ہمارے درمیان ایک قانونی معاہدہ ہے۔

AoS دینے والا فرد یا ادارہ ویزے کی درخواست دینے والے (the assuree) کی مالی مدد کا اقرار کرتا ہے جو AoS کے تحت شخص ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویزے کی درخواست دینے والے کو Centrelink ادائیگیوں پر انحصار نہ کرنا پڑے۔

ویزے کی قسم پر منحصر، AoS کی مدت 1، 2، 4 یا 10 سال ہو سکتی ہے۔

اگر ویزے کی درخواست دینے والا آسٹریلیا میں ہے تو AoS اس تاریخ سے شروع ہو گی جب اسے نیا ویزا ملے۔ اگر ویزے کی درخواست دینے والا آسٹریلیا میں نہیں ہے تو AoS اس کے آسٹریلیا پہنچنے کی تاریخ سے شروع ہو گی۔

Assurance of Support کی ضرورت کسے ہوتی ہے

جب کوئی شخص ویزے کی درخواست دیتا ہے تو Department of Home Affairs اسے بتا دے گا کہ کیا اسے AoS کی ضرورت ہے۔

AoS کیسے دی جاتی ہے

آن لائن درخواست دیں یا ہماری ویب سائٹ پر فارم استعمال کریں۔ ہم اس بارے میں ٹیلیفون انٹرویو کرنے کے لئے آپکو فون کریں گے:

- AoS دینے کے لئے آپکو کیا کرنا ہو گا
 - آیا آپ مالی مدد دینے کی استطاعت رکھتے ہیں اور قانونی اور دوسری مالی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔
- ایک بار AoS دینے کے بعد آپ اسے منسوخ نہیں کر سکتے۔

بینک گارنٹی کیا ہے

کچھ AoS معاہدوں کے لئے Commonwealth Bank of Australia کی طرف سے جاری کردہ بینک گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپکو AoS کی مدت کے لئے بینک میں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں۔ اگر AoS کی مدت کے دوران ہم ویزے کی درخواست دینے والے کو کچھ قسموں کی ادائیگیاں دیں تو بینک گارنٹی ہمیں پیسے واپس دینے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے۔

بینک گارنٹی کی رقم کا انحصار اس پر ہوگا کہ:

- کیا آپ ایک فرد یا ادارے کے طور پر درخواست دے رہے ہیں
- آپ کتنے لوگوں کی مالی مدد کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور
- انہوں نے کس قسم کے ویزے کی درخواست دی ہے۔



ہم سے لی گئی ادائیگیوں کی واپسی

ہم AoS کی مدت میں ایک تارک وطن کو مالی مدد دے سکتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ AoS دینے والا فرد یا ادارہ مدد نہیں دے سکتا۔ یا اس لیے کہ تارک وطن کے لئے مدد قبول کرنا نامناسب ہو۔ ایسا کرنے سے پہلے ہم عام طور پر آپ دونوں سے بات کریں گے۔

ویزے کی درخواست دینے والے کو ملنے والی بعض ادائیگیوں کے سلسلے میں AoS دینے والا فرد یا ادارہ ہمیں یہ ادائیگیاں واپس دینے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ مدد کی ایسی ادائیگیاں بھی ہمیں واپس دینے کا پابند ہوتا ہے جو درخواست گزار کے بچوں کو دی گئی ہوں۔

assuree کو دی جانے والی قابل واپسی ادائیگیاں assurer ہمیں واپس دینے کا پابند ہوتا ہے۔ ان میں یہ شامل ہیں:

- Austudy Payment
- Newstart Allowance
- Parenting Payment (Partnered)
- Parenting Payment (Single)
- Sickness Allowance
- Special Benefit
- Widow Allowance
- Youth Allowance

Crisis Payment اور Rent Assistance جیسی اضافی ادائیگیاں بھی قابل واپسی ہو سکتی ہیں۔

مزید معلومات کے لئے

- انگلش میں مزید معلومات کے لئے humanservices.gov.au/assurance پر جائیں
- humanservices.gov.au/yourlanguage پر جائیں جہاں آپ اپنی زبان میں معلومات پڑھ، سن یا دیکھ سکتے ہیں۔
- Centrelink کی ادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کیلئے **131 202** پر کال کریں۔
- Medicare اور Child Support کی ادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کے لئے **131 450** پر **Translating and Interpreting Service (TIS National)** کو کال کریں۔
- سروس سنٹر میں آئیں۔

نوٹ: آسٹریلیا میں کسی بھی جگہ سے گھر کے فون سے '13' نمبروں کی جانے والی کالوں کی ایک طے شدہ شرح پر قیمت لی جاتی ہے۔ یہ شرح مقامی کال کی قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے اور مختلف ٹیلیفون سروس پرووائیڈرز کی شرح بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ گھر کے فون سے '1800' نمبروں کو کی جانے والی کالیں مفت ہوتی ہیں۔ پبلک فون اور موبائل فون کی کالوں کا وقت نوٹ کیا جا سکتا ہے اور انکی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔

اعلان دستبرداری

اس اشاعت میں موجود معلومات صرف ادائیگیوں اور خدمات کے لئے بطور رہنمائی دی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ طے کریں کہ آیا آپ کسی ادائیگی کے لئے درخواست دینا چاہتے ہیں اور اپنے مخصوص حالات کے حوالے سے درخواست دیں۔